

سیکشن 1

ہیلتھ کیئر کو سنسٹ ایکٹ (Health Care Consent Act) کے مطابق متبادل فیصلہ کرنے والی کی درجہ بندی

1. کوئی سرپرست جو علاج کے بارے میں رضامندی دینے یا انکار کرنے کا مجاز ہو
 2. ذاتی دیکھ بھال کیلئے کوئی اٹارنی (attorney) جو علاج کے بارے میں رضامندی دینے یا انکار کرنے کا مجاز ہو
 3. Consent & Capacity Board کی طرف سے مقرر کردہ ایک نمائندہ
 4. شریک حیات یا ساتھی
 5. اولاد یا والدین
 6. والدین میں سے کوئی جسے صرف رسائی کا حق حاصل ہو
 7. بھائی یا بہن
 8. کوئی دوسرا رشتہ دار (خون یا ازدواج کا رشتہ یا متبنی)
 9. پبلک سرپرست اور ٹرسٹی
- (www.e-laws.gov.on.ca)

برائے مہربانی سوال پوچھیں۔ ہم اپنے مریضوں اور ان کے خاندانوں کی مدد کیلئے یہاں موجود ہیں۔

ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم (Name of Organization) System) میں ہم مریض کی بہترین دیکھ بھال کرنے کا عزم کئے ہوئے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مریضوں اور SDM کے پاس ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں مناسب معلومات موجود ہیں۔ برائے مہربانی یہاں پر عملہ سے بلاجھجک بات کریں۔ جس میں سوشل ورکر، روحانی دیکھ بھال کرنے والے اور اخلاقیات کے پیروکار شامل ہیں۔

یہ پیشہ ور مشکل اوقات میں ہر ایک کی مدد کرنے کیلئے یہاں موجود ہیں اور یہ یقینی بنانے کیلئے آپ کی مدد کو تیار ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کے بہترین مفاد میں ان کی مرضی کے علاج کے بارے میں فیصلہ میں مدد کیلئے ضروری معلومات رکھتے ہیں۔

Name of Organization

Ethics

Phone Number

Website

Consent & Capacity Board

(کونسنٹ اینڈ کیپیسٹی بورڈ)

Toronto Regional Office

(ٹورنٹو ریجنل آفس)

فون: (416) 327-4142

فیکس: (416) 924-8873

www.ccboard.on.ca

Health Care Consent Act

(ہیلتھ کیئر کو سنسٹ ایکٹ)

www.e-laws.gov.on.ca

Put logo here

دوسرے لوگوں کیلئے فیصلہ کرنا

متبادل کا رول فیصلہ کرنے والے (SDM)



جب نا اتفاقیوں ہوں تو کیا ہوتا ہے؟

بعض اوقات جب ایک سے زیادہ فیصلہ کرنے والے ہوں تو وہ علاج کے فیصلوں میں اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ ہسپتال میں ہم ان اختلاف کو طے کرنے میں مدد سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہاں آپ کی مدد کیلئے تربیت یافتہ پیشہ ور ہیں۔ اگر آپ پھر بھی متفق نہ ہوں تو دو چیزوں میں سے انتخاب ہوسکتا ہے:

- پبلک گارڈین اور ٹرسٹی کے دفتر کا کوئی پبلک افسر فیصلہ کرے گا۔
- پبلک گارڈین اور ٹرسٹی کے دفتر کا کوئی پبلک افسر فیصلہ کرے گا۔
- Consent and Capacity Board فیصلہ کرنے کیلئے ایک نمائندہ مقرر کرسکتے ہیں۔ یہ نمائندہ متبادل فیصلہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ہوسکتا ہے یا نہیں۔

اپنے آپ سے پوچھیں:
”کیا میری والدہ نے ان حالات کے بارے میں بات کی تھی۔ اُس نے کیا کہا تھا؟“
”کیا میری والدہ کہتی کہ میں یہ علاج کروانا چاہوں گی یا نہیں؟“

کیا زندہ کی وصیت مدد کرے گی؟

مریض کی ہوش و ہواس میں بیان کردہ خواہشات **SDM** کو یہ سمجھنے میں مدد کرسکتی ہے کہ مریض مختلف صورتوں میں کیا کرنا چاہے گا۔ خواہشات پاور آف اٹارنی دوسری تحریری شکل (زندگی میں لکھی ہوئی وصیت) یا زبانی بیان کی جاسکتی ہیں۔ پوچھیں کہ کیا مریض نے اپنے علاج کے متعلق خواہشات بیان کی تھیں۔

اگر آپ نہ جانتے ہوں کہ مریض کی خواہش کیا ہوسکتی ہے تو؟

اگر **SDM** صورت حال کے مطابق خواہش کو نہیں جانتا، یا اگر خواہش کے مطابق عمل کرنا نا ممکن ہو تو **SDM** کیلئے ضروری ہے کہ وہ مریض کے ”بہترین مفاد“ کے مطابق علاج کا فیصلہ کرے۔ بہترین مفاد کا تعین اُن اقدار اور عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے جنکے متعلق **SDM** جانتا ہے کہ مریض ہوش و حواس کی صورت میں رکھتا تھا اور علاج کے اُن فیصلوں سے مریض کی حالت بہتر ہوگی یا بہتری کی طرف تبدیل ہوگی۔

SDM علاج کی نوعیت، متوقع فوائد، مادی خطرات اور ضمنی اثرات کاروائی کے متبادل راستے اور علاج نہ کرنے کے ممکنہ، نتائج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مجاز ہے۔

یہ آپ اور آپ کے خاندان کیلئے کوئی پرسکون وقت نہیں ہوسکتا۔ ایک عزیز بہت بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے اور اپنے علاج کے بارے خود فیصلہ نہیں کرسکتا/ کرسکتی کسی دوسرے کیلئے ضروری ہے کہ فیصلہ کرے لیکن کون اور کسیسے یہ بروشر ان سوالات کے جواب کیلئے مرتب کیا گیا ہے۔

علاج کے فیصلے کون کرتا ہے؟

اوتھاریٹی میں ہر شخص اپنی صحت کی حفاظت اور علاج کے بارے میں خود فیصلے کر سکتا ہے جب وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو۔ اگر مریض اس قابل نہ ہو تو ایک متبادل فیصلہ کرنے والا (Substitute Decision-Maker (SDM) علاج کے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ یہ **SDM** عام طور پر ایک نزدیکی رشتہ دار ہوتا ہے (دیکھیئے سیکشن 1)

یہ متبادل فیصلہ کرنے والا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟

کسی دوسرے کی حفظان صحت کے بارے میں فیصلے کرنے کیلئے قانون میں اصول وضع کئے گئے ہیں۔ کوئی **SDM** کو کسی مریض کے بارے میں اُس وقت فیصلہ کرنے کیلئے کہا جاتا ہے جب مریض خود فیصلہ کرنے کا اہل نہ ہو۔

Consent and Capacity Board کا کیا رول ہے؟

بعض اوقات جب کوئی ٹیم اور **SDM** متفق نہ ہوں اور ٹیم رضامند نہیں ہوسکتی تو ایک تیسرے غیر جانبدار کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ **Consent and Capacity Board (CCB)** کہلاتا ہے۔ اس صورت میں **CCB** کی جانب ایک درخواست بھیجی جاسکتی ہے یہ دیکھنے کیلئے کہ علاج کا فیصلہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے۔ یہ صرف اُس صورت میں ہوتا ہے جب **SDMs** اور علاج کرنے والی ٹیم وسیع گفت و شنید کے بعد کسی ایسے نتیجہ پر نہ پہنچ سکے جو سب کیلئے تسلی بخش ہو۔

SDM کیلئے ضروری ہے کہ مریض کی پہلے بیان کردہ خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرے۔ اگر **SDM** صورت حال پر لاگو خواہش کے بارے میں نہیں جانتا یا خواہش پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو **SDM** کیلئے ضروری ہے کہ مریض کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرے۔